

34810- ہم رات میں نزول الہی کا کیسے سمجھیں کیونکہ مختلف ممالک میں رات بھی مختلف ہے

سوال

حدیث میں وارد ہے کہ: (اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات کورات کے آخری تیسرے حصہ میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے) حدیث -
تو یہ رات کا تیسرا حصہ کب شروع ہوتا اور کت ختم ہوتا ہے، اور مختلف ممالک میں نزول الہی کیسے ہوگا؟

پسندیدہ جواب

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے نزول کے متعلق احادیث تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔

فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: (ہر رات کو جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب آسمان دنیا پر نزول فرما کر یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کا پکار کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں، اور کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔۔۔)۔

اہل سنت و الجماعت کا اس اجماع ہے کہ صفت نزول اللہ تعالیٰ کے لئے اسی طرح ثابت ہے جس طرح کہ اس کے شایان شان اور لائق ہے وہ اپنی صفات میں سے کسی بھی صفت میں مخلوق کی صفات سے مشابہت نہیں رکھتا جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے:

﴿کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ تو وہ کسی کو جنتا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہو ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے﴾۔

اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

﴿اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سنے والا دیکھنے والا ہے﴾۔

تو اہل سنت و الجماعت کے ہاں یہ واجب ہے کہ صفات والی آیات اور احادیث کو اسی طرح رکھا جائے جس طرح کہ وہ آئی ہیں ان میں کسی قسم کی تحریف اور تغیر اور نہ ہی تعطیل اور کیفیت اور نہ ہی مثال بیان کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایمان اور اعتقاد رکھا جائے کہ وہ آیات اور احادیث، جس پر دلالت کر رہی ہیں وہ حق ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کے مشابہ نہیں اور نہ ہی ان کی کیفیت بیان کی جاسکتی ہے۔

بلکہ اہل سنت کے ہاں تو صفات میں بھی وہی قول ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کہا جاتا ہے کہ جس طرح اہل سنت اللہ تعالیٰ کی ذات کو بغیر کسی کیفیت اور مثال ثابت کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کے ثبوت میں بھی کسی قسم کی مثال اور کیفیت نہیں ہے، تو نزول الہی بھی اسی طرح ہے جس طرح کہ اس کے شایان شان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نزول مخلوق کے نزول کی طرح نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ وصف ہے کہ وہ رات کے آخری حصہ میں دنیا کے ہر حصہ میں اس طرح نزول فرماتا ہے جس طرح کہ اس کے لائق ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا اسی طرح اس نزول کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿اس کی مثل کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ سنے والا دیکھنے والا ہے﴾۔

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿تو تم اللہ تعالیٰ کے لئے مثالیں نہ بیان کرو بیشک اللہ تعالیٰ جانتا اور تم نہیں جانتے﴾۔

اور رات کے آخری حصہ کا پہلا اور آخری حصہ ہر زمانے میں اس کے اعتبار سے معروف ہے، وہ اس طرح کہ اگر رات نو گھنٹے کی ہو تو رات کا ساتواں حصہ اللہ تعالیٰ کے نزول کا اول وقت ہے حتیٰ کہ طلوع فجر تک ہے، اور اگر رات بارہ گھنٹے کی ہو تو رات کے تیسرے حصہ کی ابتدا نو گھنٹے کے شروع میں ہوگی جو کہ طلوع فجر تک ہے، اور اسی طرح ہر جگہ پر رات کے چھوٹے اور بڑا ہونے کے حساب سے وقت کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔